1 - 2000 000 2000 000 2000 000 2000 000 2000 000 2000 000

כ שקבע תב. אבינ על על תל תל אחת ב איל בעוב בפכב	1.1	5270 8270 20% .1
2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -		وَ يُحْدِرُ وَسَرَةِ مُرْسِرِةٍ صَوْوَرُرُ
ב שת הל הלפק בנה פת פת באל אים משא האל ב ציתה	1.2	מאר לא מינים לא מינים אינים אינים אינים אינים אי
(كَانْتُوْسْ سَرَسْ مَعْ مِيْ: 2014/18) كَ مُرْسْرَمُ مِي سُوعَ مِي مُعْمُو وَرِدُو		אס ניסיל אין אין אין אר
לים לים ליל אל היל ליל ליל ליל ליל ליל ליל ליל ליל לי		× د د ه ۱۳۰۰ میرسر.
سَرُسْ مُنْ مُنْ (2014/19) كُ عُرِيْسٌ مُرَيِّ مُرَيْسٌ عُرِيْ مُنْ مُنْ مُو وَرُدُوَّ		
יים יים יים יים ז' אים הפתעות פי		
שת מל המילות כ תחב ב המינים 2 ב'ת'פ' שת המיל	1.3	
1,0,0,0 2 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0		
ן מארם אר כם אר 2000 באל ארם אר בארם. תבתוב פת המפשת שתתו מת על תקרים בא בארפי		
של אל אליני לישל אליני	1.3.1	
وسره سرور) هرد و درو درو درو درور برور درور درور درو		
ים כיווי ווכו כיו וווכם יס נס כו יוכן ביו שלית תיתחל נמסב מתפס תנמסית התחמית מא במסב החת		
ره در		
ب وراده در در مود ب ورد و مود مودوس		
יים איני איני איני איני איני איני איני א		
%))) وسرار و .		
ביים ביל	1.3.2	
הצאפינת הרע אל ב ל ל ל ב ל הפינות שתייע או ול פא תצ		
השל הער הל		
صور و مرد مرد مرد و مرد المرد	1.4	מנו ה בני מנו מני
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ŕ
ים ים נינינים ניו ים יוט ניו יוט פל מאר משל	1.5	
ב' רו" (מ' ר' כ'		
מב. ארב עריים אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו	1.6	
1/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
0x x 1007 100 100 100 100 100 100 100 100 10		
أَرْرَدُوْرُوْ وَرُوْرُ وَرُوْرُ مِرْوَرُ مِرْدُرُ وَرُوْعُ دُمَامُ دُمْرِ وَرُوْعُ مِرْدُ		
هور (راز از ا	2.1	1583 2000 0103 43810 .2
(2 مُرْمُورُ مُرْمُورُ مُورُ مُرْمُورُ مُورُ مُرْمُورُ مُرْمُ مُرْمُورُ مُرْمُورُ مُرْمُورُ مُرْمُونُ مُرْمُورُ مُرْمُورُ مُرْمُورُ مُرْمُورُ مُرْمُورُ مُرْمُورُ مُرْمُورُ مُرْمُورُ مُرْمُونُ مُورُ مُرْمُونُ مُونُ مُرْمُونُ مُرْمُ مُرْمُ مُونُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُونُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُ مُرْم	2.2	מנו מת מר מנו

(0/ 0 0/ 6 4/24/) 2 0/ 0/	2.2	
ا الله الله الله الله الله الله الله ال	2.3	
מיני לייני	3.1	3/27/ 07XU(1/1 3 .3
הפאת הפאת על היים אים אים אים אים אים אים אים אים אים		02221 4602000
,		
מילית רלפכב בחלם ארכת שלכת מיתכתית של מילים אינים של מילים מילים מילים אינים של מילים מילים אינים של מילים אינים של מילים מילים אינים של מילים של מילים אינים אינ	4.1	4. פת כ'ר ב'ר ב'ר ב'ר היים .4
ני מים מים מים מים מים איני מים מים מים מים מים מים מים מים מים מי		
ביתרים תית ברוצה אל הפינים ביתשה (הית הבצה) בית פיתרים		
ל ב אל ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב	4.2	
התרפת שלכב בתלכם שלטאבת ג'ייאם לאפטער		
י ס י כ י אם ארשייט ט הבתיך בתפעת ביתפיתהפי		
יים אורים א	5.1	הלים להתאמאת הלים .5
יניני איני איניני איניני איניני איניני איניני איניני איניני איניניני איניניני אינינינינ		מו דים די מומין ים מית נות מו מקפים—
בריקים און ארים בריקים אין		
و صورد کر کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر	6.1	6. שת ל ב צו שממע א א ל ת
ש		·
יני נסינ יון " ג × מים מים מים ניין " ני מים מים מים מים מים מים מים מים מים מי	7.1	7. هروی ده رو 7. هروی و ارتزه
نْرِيْ وَدْرُوْيْ 30 دْرُوْرِيْ دْدْرُوْرِيْ		· ·
وَّوِرْدَرُوْءُ وَوَرِيْرُ سَرَسُوْمُ لَهُ \$ 10.4 وَرُوَّ خَوْدُ وَمِسْ صِوْسُ	8.1	8.0.8 مرديرع
אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו		, · · · · ·
לתתלית פייתה פי שיער אפ הב גנפיים באיתם		
رُسَرَمُوْسِ 500000.00 (وَسُورُمُنَ شُرُورً) رَسُونِمُ وَمِدُ		
י 0 י י י ט י ה תייע ה עיע פ		
א "0 א 0 א א ט . כ 0 וו א . כ כ . כ 0 א וו א בפר א א א א א א א א א א א א א א א א א א א	8.2	
الروى مركز مركز المركز		
ا كرو كرو كرو كرو كرو و المروع كرو		
י "י" י "י" י "י י "י י "י י "י י "י י		
(ברי" בסי רבי 2% התל שמת במתש התרעת שתחפ.		
ל מין		
ئرىرىش 30 (ھىيە) ئرۇرى دەرىكىنىدۇ.		
ס א אין אין אין אין אין אין אין אין אין א	8.3	
בארב יול יול של מל של של של בל מאל יול ב		
שתית על חל של לא לא האל העת העל לא נים אים אישר בין בין אישר העל לא האל האל האל האל האל האל האל האל האל	8.4	
صَرْدُ رُرُهُ 7 (رَوُرُ) دُورُدُ مُعَدُر صِرُسُ عُرِرُهُ عَرْدُو		

<u> ۵٬۵۲۵ (ترکه گار پروسی 2024)</u>

######################################			
	קרות קסבת צו שלית מתו-ים מתנותב הציאמת		
	(در		
(الله الله الله الله الله الله الله	שתית עב תנם על נאלים העת העל לאנים לעל לעל העל אים	8.5	
هَهُ مُهُ مُهُ مُهُ مُهُ مُهُ مُهُ مُهُ	صُرْفَر الرُّسُ 7 (رَجُورُ) قَرْفُ وَرُسْ صِوْسٌ مُاسْبَوْ مُسْرُوسِرُو		
جَاءَ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهُ الْهِ الْهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل	הצילפת לתרול בל ב ב ביל התרום בל התלפת תבותרום.		
	مرس دسرسروس مسرقر لنمو ورو سوم د مردد شوری	9.1	9. ھۇئىر زىركىۋىر / ھۇئىر
	תכת בל בל בא אים בל בל איני ביימוני ביימוני איני היימו		/ 0 ד ד (א) × 0 סית בק מ המית 2 0 ₂
(المراق ا	وع د مرد گرد (در مرد کرد کر مرد در د	9.2	
(المرد الله الله الله الله الله الله الله الل			
(المرد الله الله الله الله الله الله الله الل	سمع دیدری مسرمی تریم مسرد در مرسر در	9.3	
ر در			
ر در	رَرَرُدُ مِوْسُرُورُ رُسْرِسُرُوسِ صَسْرِقُولُ مَوْدُلُهُ وَرُدُو سَوْعِ رَجْرِدُرُ	9.4	
برور برور برور برور برور برور برور	(دو. ﴿ وَوْ رُسُوسٍ وِ رِمُرْمُورُ وَ مَرْدِهِ مِنْ وَمُورِ مَا فِي رَفِي وَرَسْ عَرَدٍ ،		
(الله الله الله الله الله الله الله	ת אל		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1. (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
9.5 0.5	27. x 29. x2.		
	י ייף ט קפר את הש		
	ري در	9.5	
	" ﴿ وَمُرْوَ مُرِسْرُهُ كُرُوْهُ مُولًا كُرِ مُرْجِ فِي مُولِرِ الْمُ كُرُولُ كُمُ هُمُ مُعْسَرِّسُرُدِ		
$ \frac{10.6}{6} $ $ $	مُخِ وَهُمْ وَوُرِ مِرْةً وَمُمْ وَمُونَا وَمُرْدُونَ عُرِدُ وَمُرْدُونَ مُنْ وَرُونُونَ مُرْدُونُ وَمُرْدُونُ		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	دُسْرِتُ 3 دُرِق رِضْهُ دُرِ صُرْبُور دُوْسِرِدُو. دُ		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	רינולים " הרומלה באינורים באיל באילפילים שלים		
$ \frac{2024}{600} \frac{10:00}{600} \stackrel{?}{=} \frac{10:000}{600} \stackrel{?}{=} \frac{10:00}{600} \stackrel{?}{=} \frac{10:00}{600} \stackrel{?}{=} 10:$	هُ چُو وُ سُرْدُو. هُجُو وُ سُرْدُو.		
$ \frac{\hat{\kappa}\hat{c}\hat{c}}{\hat{\kappa}\hat{c}} \hat{c}\hat{c}\hat{c}\hat{c}\hat{c}\hat{c}\hat{c}\hat{c}\hat{c}\hat{c}$	وِوْسَاوْرُوْ مُرْوَهُ رِجْرُو هُوْ دُورِ دُرْدُوً ﴿ وَرُمُوهُ دُرُدُو مِنْ مُورُدُ دُرُدُو مِنْ الْ	10.1	10. ھۆس رىزكرۇدى ئىسىرى
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2024 عَسْرَوَهِ 24 وَ هُوَ مُرْوَرُ 10:00 كُو تُوبِرِيْرُ (رمور:		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	مردر مردر و رومر فرود و مراد المردر و مردور المردر المردور ال		
$ \frac{\hat{s}_{0}\hat{c}_{0}\hat{c}_{0}}{\hat{s}_{0}\hat{c}_{0$	٥٠ / (((ر)) ۵ / در تو و و د در و .		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		10.2	
	قرور در مرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد ک		
ال در			
	رَسْرِسْرُ مَرْبُ وَ فَرُورِي 10:00 كَ تُرْمِرْشُرُسُرُو.		
מריע מו היינו מו מינו מינו מינו מינו מינו מינו מי	۵٬۵٬۶٬۵٬۵٬۵٬۵٬۵٬۵٬۵٬۵٬۵٬۵٬۵٬۵٬۵٬۵٬۵٬۵٬۵	11.1	• •
	מינו בא מינון. סיקונה על מעפיענה פי		0×(U(2))/)(1/0/ \$5\$\$\$\psi \psi \psi \psi \psi \psi \psi \psi

و دُسَارُهُ مُرْ رُرُدُو مِوْسُرُهُ رُوْوُرُ رُدُعُ رِوْرُوسِ	12.1	יצי הפלח הפלח הפלחשים בינים .12
عَ سَرَوَهِ 24 وَ هُوَ قُرُورُ \$ 10:05 كَدِ صِوْسٌ رَسَرَدُو وَيُرْهُمُونَاكَ		מר מ
23 0, 1 1 1 0, 23 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Ž
1,00 % (1,00) Exores 1,000		
عَوْسَ رَوْوَسَ مِسْرِسِ عَوْسَ رَوْوَدَ دُرْدُوْدَ 10.1 وَسَرَ	12.2	
מיני ני יסיניי בתבצת הא מנצת		
מל תל לל	12.3	
האלאת שת ל לפור בפצר ולשתה לרצות של של		
رُوُوْسُ رُسُرْسُ فِي رِيْسُ رُسُرِسُ مِنْ مُنْ وَوَرُدُ وَسُرْمُو وَ وَوَرُدُ وَسُرْمُومُ \$10:05		
ر ، ، ، د <i>ر</i> و.		
دي دوي دوي دوي دويدر مويور موردي مويري	13.1	13. صور سرکار در ور در می مرس
وَيُ سُرِّرُونُ مُ وَدُونُ مُ وَدُونُ مُ وَدُونُ مُرَادُ مُنْ مُرَدُّ مُرَادُ مُنْ مُرْمُونُمُ مُرَادُ		
عَوْمَرُ وَعَامُ لَا يُورُدُ عُنْرِيْرُلَا يُرَارُ وَمِرَى مِرْدُورُ عُوْرِدُورُ		
י () () () () () () () () () (
ع وَسَرُ بُرُونِ مُرَّدُ وَمُرَّدُ مُرَّدُ مُرَّدِينًا فَرَيْسٍ ، وَسُرِسٍ كَ مُرْسِرُ وَوَ وَمُرْسِرُ مِرْ وَ	13.2	
مرَ وَرَدُو مِدْرُو مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَمُوْرِ وِضْ وَيُرْدُ		
מאמנים מים אין מים אין אין באין אין האין האין אין אין אין אין אין אין אין אין אין		
۵٬۵۱ گاده وکر ۱٬۵۰ کا میرهی ده کراره کارو کارو کا کرد		
ייס		
ים אר האים אין איני האים בים מים בים בים בים בים בים בים בים בים בים ב	14.1	14 - ﴿ وَرُورُ رُورُورُ وَ مُرْسِرُ
. כ כ ייס ייס ייס ייס ייס ייס ייס ייס ייס		0/0 " " C C " ! " O X O X
ים איל בי איני מיני בי ארבי בי איני מילפי בית פיני בית פיני בית פיני בית פיני בית בית בית בית בית בית בית בית בית בי	14.2	ט כ כ 0 תית צית
هُ رُورِدِدِهِ 07 (رَهُر) دُرُورَ مُنْ کَرَدِ هِ وَمِنْ سُورِهُ مَا مِرِدِهُ سَارِدِ هُ سُرَوْسِرْسُ 07 (رَهُر) دُرُورَ هُورِدَ هُمَا کَدِرِ هِ وَسُرِ سُرِدِهُ سَارِدِ		00000000000000000000000000000000000000
באלר תב. תכל עתיים תלא לה בכב כייחנים		
× (: 0 / 0) × / 1 20 / 0 (0 / 0) × / 1 20 / 0 (0 / 0 / 0) × / 1 20 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0		
14.2 كَدِ جُرُمُ مُرْسِرُ وَرُوْ خُرْوَ وَجِيْرُ دُ وَرُحْرُوْدُدِ	14.2.1	
ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב		
ב'יס'ס ''פניט'ט'ט' א'ס'ס ''פניס'ס ''פניס'ס ''פניס'ס ''כ'יס'ס'ס'ס'ס'ס'ס'ס'ס'ס'ס'ס'ס'ס'ס'ס'ס'ס		
وْمَرُورُ رُوُولِمُ مُولِمُ وَمُرْمِرُ رُرَمُ مِ مُرَدِي مُرَدِي مُرَدِي مُرَوْمُ مُرْمُومُ مُرَوْمُ		
. (4 / 2 / 2 / 3 / 3 ×		
ים ים יפיני ארנים יו יים יים יים יים יים יים יים פים ארנים	14.2.2	
000000 00000 00000 00000 00000 00000 0000		
وَسَمْرِينَ وَمِرْدِهِ وَسِرْدَ وَرَدِيدَ وَ وَرِدْرَهُ وَ وَرِدْرُهُ وَوَرِدْرُو وَ 17.19		
י ייי אייי אייי אייי אייי איייי איייי אייייי אייייי איייייי		

Page 6

2024 مِوْسُ رُمُرُمُو وِرُسُرُ Page 7

מבי. מרב ממניים של מינים מרב מביים ארכו מינים מרב מביים ארכו מיניים מרב מביים ארכו מיניים מרב מביים ארכו מיניים מרב מרביים ארכו מיניים מרביים ארכו מיניים מרביים ארכו מיניים מרביים ארכו מיניים ארכו

- 2 ء بر بر الم

היתנים – 1 סקיים ריקריל צר
برسيانة الأحراقيم
/ ورُورِ بُرُدُج
00 4113 01 23 4111 1290 2
ر براده در براد براده ب
رور درور وی کرم و درور درور درور درور درور درور درور
י ב 0 / 2 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /
פרים בים בים בים בים בים בים בים בים בים ב
ברת בל הל
﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿
دِکَرُوْسُ اِللَّهُ مُرْدُرُونُ وِدْرُدُنُ) دُوِلُدُرُو دُدُرُو دُرُونُ دُرُونُ وَدُنَا . دِکَرُوسُوسُ وَسُرُ دُمْمُوسُ وِدُرُدُنُ) بُرُولُدُرُ مُرْدُرُ دُرُونُ دُرُونُ وَدُونَ
בריים בין בים בין בים בין

ر. وُسُورُ رُورُو مُرَوُرُ مُرَوُرُ وَرُرُو وَمُرَوْرُ وَرُرُو وَرُورُ وَرُرُو وَرُورُ وَرُورُ وَرُورُ وَرُورُ
رُنْ يُرْدُرُ عُرْدُرُ عُرُدُ وَوُسُورُ رُوْسُرُدُ عُرْدُ
ת. ב'מות ב'ני ב'מות ב'ני מותם מותם ב'ני ב'ני ב'ני ב'ני ב'ני ב'ני ב'ני ב'ני
(دُورْدُ دُرُدُ وَ دُرُدُ وَ اللَّهُ اللَّ
چ ۾ کوري (مرکز عرفر کر کرکز عرفر کاری اور کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری کار
י " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
٠ ٣ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١
כ מים תכנב בים בינה בינה בינה בינה בינה בינה בינה בינה
مُرُورُ:
(34) 41) 3 01 35×3 41×1 1990
×
سرُسُر

عِوْسُرُ رُسُرَمُوعٌ وِرِيْسُرُ 2024 عِوْسُرُ رُسُرَمُوعٌ وِرِيْسُرُ 2024 פ'רצית ב (מת במשת תכ)

0 /×0 (34) (1/13 01 713×3 58×3 51×1 1190

	2/22/ (24/ 1/2 82/42 (8/2)	2 ۾ وُڙي ٽرين
	מינים ל אינים אינים מיני מינים מאבים ל אינים אינים	2.1
	0 (0(// 3 - x 2 / 2/ x 3	2.2
	101 3 C 102 m z 103 m z	2.3
	9,00 A	2.4
و دوری وسری سرور و تخور دری کا می سروه می	2.5	
	ى ە سرم _ۇ	2.5.1
	0/0/0/ / %3 0×30% 188411 XX 74311	2.6
	'אַבָּבֶּר מִצְבָּבְּאַ מִינִי	2.7
	برج سوه پر کر گرار:	2.8
. 2 % 3 7 4 7 2 5 6 7 4 7 2 6 7 2 6 7	ה א ה א ה א ה א ה א ה א ה א ה א ה א ה א	2.9

(2000)

		·		
#	800 x 500 50 50 200 1 200 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	<u>@</u> #ערם זקנית	<i>ש</i> נאמל איני	ה ה ה ה ה ת ות ית הב א
	ב' פ'	د ح	د ح	9038000
		۵/۵/۵ تر ترحیم تری	در فرقرهیمزی	2 50
		برج سوھ پر	، بریم سوھ پر	נולע ב
		۵۸ ز ۵× ۷۷ زرو	ر مامر قرار مرور و	1 15 3 3
		נומים מני די מיפחייקב	1/2 0 6 11/3 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3/3
		20/1/3 (20/2002	ر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	/" ، ، قرارو.
		א הריים אר	ת נהם הם ת נתינת הבר	
1	י איני אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי	✓	✓	
2	ر در در در مرور و در	✓	✓	
3	0 1×0 (24,1 41,12) 70373 5873 7071	✓	✓	
4	ر د در		✓	
5	(# //) 00 0 XX ()/ (/) 00 0 X SKJ BDM XEMMO V ZMV X SVYANN EXX E EX			
	('2' '1' '2' '2' '2' '2' '2' '2' '2' '2'			
6	פיתע הפשרתש (שלי לילול לאלור ללהל באלה באלה באלה באלה באלה באלה באלה	✓	✓	
	، رد ،) قرفرری			
7	والرؤيم كري موضي كالمرز (والرفرة الأوروز)		✓	
8	שת כלת ארני לל לל הל השאת (בלא הל השאת)	✓	✓	
9	00 (1 2/ 2/0// מא מא משל ה תומ	✓	✓	
10	دُرٍ وَرُرِدُ (صُرْمَ دُرُسُرَجِ دُرُدُ مُمْدِعٌ وَسَرِجٍ وَوَرُ)	✓	✓	
11	پر د و د پوه و مار و		✓	
12	تَوَرِّوْسُ وَسُ مُسْ وَرِبُ مُرَكَّارُونَ وِرُسْ (مُسْرُو وَرُسُ	✓		
	٥٥ / ٥٥) خرار مرد ک			
13	"ב" ה' ב' ב' ב' ב' ב' ב' הר מפעב ב' המת "ב' ה' ב'	✓	✓	
14	0 / 0 0 / 0 0 ((1,9 2 m 2 1)		✓	
14.1	ר (/ י (0) ט (0 / 0) ר (0) ט (0 / 0) ט (0 / 0) ט ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל	✓	✓	
	00 / " / C C C D D D D D D D D D D D D D D D D			
				L

✓	✓	بَوْرُ سُرُوْمُ مِي كُرُوْرِ (مِوْرُ بَوْرُدُ وَمِرْسِ مِوْرُوسُ	14.2
		יים אייע אייע אייע אייע אייע אייע אייע א	
✓	✓	ייני פעצה התעת בני ניסייטיט אייני פעצה התעת פיתה פ	14.3
✓	✓	מיני איני איני איני איני איני איני איני	14.4

		•
	מוב מי ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	3. تۇرىتىش شورۇ ر
80	יתרץ השתב על הל / (תלהץ הל	3·1
10	(- ,)))) : (((((((((((((((3.2 څرځرځو
10	שני , ג יינ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3.3 مَرْجُ بِرَجُ
	50 703 50 478	
100		107 128

	ים ים ים יבט ים ים ים ים פ שמתמל תפלח היינות בתצית ב
	3.4
	3.5
	3.6
	3.7
	/ 0 7 7 7 8

2024 مِرْسُرُ رُمْرَدُو وِرْسُرُ Page 12

			, , ,	
31	3/1	وُسَوْرُهُ وَيُرْهِ رِحْرِيُّ / وُبُرْهُ	\$ \times \ \ \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi	ית כ' ס' זק
(تر دِراً)				

Page 13 وَوَسُرُ رُمُرَدُو وِرِمُسُرُ Page 13